

سندھ ایکٹ نمبر XII مجریہ ۱۹۹۳

SINDH ACT NO.XII OF 1994

سندھ ثقافتی ورثہ (تحفظ) ایکٹ، ۱۹۹۴

THE SINDH CULTURAL HERITAGE (PRESERVATION) ACT, 1994

فہرست (CONTENTS)

- تمہید (Preamble)
- دفعات (Sections)
- ۱۔ مختصر عنوان اور شروعات
Short title and commencement
- ۲۔ تعریف
Definition
- ۳۔ مشاورتی کمیٹی
Advisory committee
- ۴۔ سوال کہ کیا تحفظ میں لیا گیا کوئی ورثہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے
Question as to whether any protected heritage is of historic interest
- ۵۔ احاطوں کی حوالگی، تحفظ وغیرہ
Custody, preservation etc., of premises
- ۶۔ تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کا اعلان
Declaration of protected heritage
- ۷۔ حکومت کے تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کا حق یا سنبھال حاصل کرنا
Acquisition of right in or guardianship of a protected heritage of the Government
- ۸۔ تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کا تحفظ

Preservation of protected heritage

۹۔ سنبھال نہ کر سکنے والے مالکین

Owners under disability

۱۰۔ بقایاجات کی وصولی

Recovery of Arrears

۱۱۔ تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی مرمت کے لیئے مالی امداد کی درخواست

Application of endowment to repair of a protected heritage

۱۲۔ تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی لازمی خرید

Compulsory Purchase of Protected heritage

۱۳۔ تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی مرمت

Maintenance of protected heritage

۱۴۔ چندہ اور عطیات

Contributions and donations

۱۵۔ تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کا مقصد اور استعمال

Purpose and use of protected heritage

۱۶۔ تحفظ میں لیئے گئے ورثہ سے حکومت کی طرف سے حق سے دستبردار ہونا

Relinquishment of Government rights in a protected heritage

۱۷۔ مخصوص تحفظ میں لیئے گئے ورثہ پر رسائی کا حق

Right of access to certain protected heritage

۱۸۔ جرمانہ

Penalty

۱۹۔ ختم کرنے کا اثر

Overriding effect

۲۰۔ قواعد

Rules

۲۱۔ اس ایکٹ کے تحت کام کرنے والے شخص کا تحفظ

Protection to the Person; acting under this Act

سندھ ایکٹ نمبر XII مجریہ ۱۹۹۳

SINDH ACT NO.XII OF 1994

سندھ ثقافتی ورثہ (تحفظ) ایکٹ، ۱۹۹۴

THE SINDH CULTURAL HERITAGE (PRESERVATION) ACT, 1994

[۳۰ اپریل ۱۹۹۴]

ایکٹ جس کی توسط سے صوبہ سندھ میں قدیم مقامات اور تعمیراتی، تاریخی، آثار قدیمہ، فنی اہمیت کے حاصل، ایتھنالاجیکل، انتھروپولاجیکل اور قومی دلچسپی کی چیزوں کو محفوظ بنایا اور تحفظ کیا جائے گا۔

تمہید (Preamble)

جیسا کہ صوبہ سندھ میں قدیم مقامات اور آرکیٹیکچرل، تاریخی، آرکیالاجیکل، آرٹسٹک، ایتھنالاجیکل، انتھروپولاجیکل اور قومی دلچسپی کی چیزوں کو محفوظ بنانا اور تحفظ کرنا مقصود ہے۔ اس کو اس طرح عمل میں لایا جائے گا:

مختصر عنوان اور
شروعات

Short title and
commencement

۱۔ (۱) اس ایکٹ کو سندھ ثقافتی ورثہ (تحفظ) ایکٹ، ۱۹۹۴ کہا جائے گا۔

(۲) اس کی پورے صوبہ سندھ میں نافذ ہوگا، بشمول ساحلی علاقوں کے۔

تعریف

Definition

(۳) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔
۲۔ اس ایکٹ میں، جب تک مضمون اور مفہوم کچھ اور طلب نہ کرے، تب تک:

(i) "کمیٹی" مطلب دفعہ ۳ کے تحت بنائی

گئی مشاورتی کمیٹی؛

(ii) "چیئرمین" مطلب کمیٹی کا چیئرمین؛

(iii) "حکومت" مطلب سندھ حکومت؛

	<p>(iv) "مینٹین اور مینٹیننس" جس میں شامل ہے تحفظ میں لیئے گئے ورثوں اور جگہوں کی گرد جھنگل لگانا، ڈھانکنا، مرمت کرنا، اصلی صورت میں بحال کرنا، نگہبانی کرنا اور کیپنگ وغیرہ؛</p> <p>(v) "میمبر" مطلب کمیٹی کا میمبر؛</p> <p>(vi) "تحفظ میں لیا گیا ورثہ" مطلب کوئی جگہ یا آثار قدیمہ، تعمیراتی، تاریخی، ثقافتی یا قومی قدر کی حکومت کی طرف سے اعلان شدہ جگہ، جس میں شامل ہوگی اس سلسلے میں منع شدہ باہر والی زمین یا باہر والی دیواریں وغیرہ؛ اور</p> <p>(vii) "مالک" جس میں شامل ہے مالک کی طرف سے قانونی طور پر مجاز بنایا گیا کوئی شخص اور کوئی مینیجر یا انتظام رکھنے کے اختیارات استعمال کرنے والا ٹرسٹی۔</p>
<p>مشاورتی کمیٹی Advisory committee</p>	
<p>سوال کہ کیا تحفظ میں لیا گیا کوئی ورثہ تاریخی ہے</p> <p>Question as to whether any protected heritage is of historic interest</p> <p>علاقوں کی حوالگی، تحفظ وغیرہ</p> <p>Custody, preservation etc., of</p>	<p>۳۔ (۱) اس ایکٹ کے مقصد کے لیئے، حکومت ایک مشاورتی کمیٹی بنائے گی، جو چیئرمین اور حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ۶ دیگر میمبروں پر مشتمل ہوگی، جس میں سے تین تعمیراتی فن کے مورخ، آثار قدیمہ کے ماہرین، ورثہ کی حفاظت کرنے کے ماہرین اور ثقافتی آرٹس اور کرافٹس کے عالم ہوں گے۔</p> <p>(۲) چیئرمین یا میمبر، علاوہ ایکس آفیشو میمبر کے، جب تک وہ حکومت کو خط کے ذریعے استعیفیٰ نہ دے یا پہلے ہٹایا نہ جائے، وہ حکومت کی خوشی سے عہدہ رکھیں گے۔</p> <p>(۳) چیئرمین کسی شخص کو میمبر کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔</p> <p>(۴) عہدے کے مقصد کے لیئے مقرر کردہ سرکاری میمبر عہدہ چھوڑنے پر میمبر نہیں رہے گا۔</p> <p>۳۔ اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو کوئی جگہ یا کوئی</p>

premisess | تعمیراتی، تاریخی، آثار قدیمہ یا قومی قدر کی چیز ہے یا نہیں تو، وہ معاملہ حکومت کی طرف بھیجا جائے گا، جو مشاورتی کمیٹی سے مشاورت کے بعد اس معاملے کا فیصلہ کرے گی اور حکومت کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

Declaration of
protected
heritage

۵۔ جہاں کمیٹی کوئی معلومات حاصل کرتی ہے یا کسی جگہ یا آرکیٹیکچرل، تاریخی، ثقافتی یا قومی قدر کی چیز کے دریافت یا موجودگی کی معلومات حاصل کرتی ہے، جس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ ایسی معلومات کی تصدیق کرنے کے بعد ایسے اقدام اٹھائے گی جو ایسی جگہ یا چیز کے تحویل میں لیں، محفوظ بنانے اور تحفظ کے لیے ضروری سمجھے۔

حکومت کے تحفظ
میں لیں گئے ورثہ
کا حق یا سنبھال
حاصل کرنا

۶۔ (۱) حکومت کمیٹی کی سفارش پر سرکاری گزیٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے یا دوسری صورت میں کسی تاریخی، ثقافتی یا آرکیٹیکچرل قدر کی جگہوں کا اس ایکٹ کے مقصد کے لیے تحفظ میں لیں گئے ورثہ کے طور پر اعلان کر سکتی ہے۔

Acquisition of
right in or
guardianship of
a protected
heritage of the
Government

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت شایع ہونے والے نوٹیفیکیشن کی کاپی اخباروں میں شایع کی جائے گی اور اس نوٹیفیکیشن کی کاپی ایسی جگہ پر یا نزدیک ترین جگہ کے قریب لگائی جائے گی، جس سے وہ اسباب بھی شامل کیئے جائیں گے، جن کے لیے نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے اگر اس حوالے سے اعتراض ہو تو ان کی دعوت دی جائے گی اور اس میں بیان کیا جائے گا کہ ایک نوٹیفیکیشن کے نکلنے سے ایک ماہ کے اندر سرکار نوٹیفیکیشن میں بیان کیئے گئے اسباب پر قدم اٹھائے گی۔

تحفظ میں لیں گئے

(۳) ایک مہینے کا بیان کردہ عرصہ مکمل ہونے پر، حکومت اعتراضات پر غور کرنے کے بعد، اگر کوئی ہو، تصدیق کر سکتی ہے یا نوٹیفیکیشن کو ختم

ورثہ کا تحفظ
Preservation of
protected
heritage

کر سکتی ہے۔

(۳) اس دفعہ کے تحت نوٹیفکیشن، جب تک وہ ختم نہیں کیا جائے، اس حقیقت کی جامع شاہدی ہوگا کہ علاقہ یا جگہ جس سے وہ متعلقہ ہے، وہ اس ایکٹ کے مقصد کے لیئے تحفظ میں لیا گیا ورثہ ہے۔

۴۔ (۱) کمیٹی حکومت کی منظوری سے کسی تحفظ میں لیئے گئے ورثے کو خرید سکتی ہے یا اس کو تحفت میں لے سکتی ہے۔

(۲) کمیٹی کسی تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کو تحفہ یا وصیت کی طور پر قبول کر سکتی ہے۔

(۳) کسی تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کا مالک، تحریری طور پر کمیٹی تشکیل دے سکتا ہے جو تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کا دیکھ بھال کرے گی اور کمیٹی حکومت کی منظوری سے ایسی دیکھ بھال کرنے کی حیثیت قبول کر سکتی ہے۔

(۴) جب کمیٹی نے ذیلی دفعہ (۳) کے تحت تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی دیکھ بھال قبول کی ہے، مالک کے علاوہ اس کی، جیسے اس ایکٹ میں بیانی طور پر فراہم کیا گیا ہے، اس مالک کو تحفظ میں لیئے گئے ورثہ یا چیز میں وہ ہی حیثیت، حق، حیثیت اور فائدہ حاصل ہوگا، جیسے اس کی کمیٹی دیکھ بھال والی مقرر ہونے سے پہلے تھا۔

(۵) جب کمیٹی نے ذیلی دفعہ (۳) کے تحت تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی دیکھ بھال قبول کی ہے، دفعہ ۸ کے تحت معاہدے سے متعلقہ اس ایکٹ کی گنجائشیں مذکورہ ذیلی دفعہ کے تحت کیئے گئے دستاویز پر نافذ ہوں گی۔

۸۔ (۱) کمیٹی حکومت کی گذشتہ منظوری سے مالک کو حکومت سے کسی تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کے تحفظ کے لیئے معاہدے میں داخل ہونے کی تجویز کر سکتی ہے۔

(۲) اس دفعہ کے تحت معاہدے میں شامل ہوں گے مندرجہ ذیل معاملات یا معاہدے میں شامل کرنے کے

سنبھال نہ کر سکنے

والا مالک	لیئے، ان میں سے جو ضروری ہوں۔
Owners under disability	(a) تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی مرمت اور حوالگی اور اس کی نظرداری کے لیئے مقرر کردہ شخص کی ذمیداریاں۔
	(b) مالک کے اسی حق پر پابندی جس کے ذریعے وہ تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کو تباہ کر کہ، ہٹا کر، اس میں تبدیلی لا کر یا اس کا حلیہ بگاڑے؛
	(c) تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کو برقرار رکھنے یا اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیئے کمیٹی کی طرف سے مقرر کردہ کچھ اشخاص کی طرف سے عوام کو یا عوام کے کسی حصہ کو ورثہ تک رسائی کی سہولت فراہم کرنا؛
بقایاجات کی وصولی Recovery of Arrears	(d) مالک کی طرف سے زمین جس پر تحفظ میں لیا گیا ورثہ موجود ہے، وہ فروخت کے لیئے پیش کرنے کی صورت میں حکومت کو نوٹیس دیا جائے گا، اور ایسے ورثہ کو خرید کر کے حکومت کی طرف سے محفوظ بنانے کا حق ہوگا، یا ایسے ورثہ کا کوئی حصہ، اس کی مارکیٹ قیمت پر خرید کیا جائے گا۔
	(e) تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کو محفوظ بنانے کے سلسلے میں مالک یا حکومت کی طرف سے برداشت کردہ خرچہ ادا کرنا؛
	(f) تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کو محفوظ بنانے کے سلسلے میں کوئی معاملہ جو مالک اور حکومت کی درمیان معاہدے کا سبب ہے۔
	(۳) اس دفعہ کے تحت کسی معاہدے کے قواعد و قتن فوقتن حکومت کی منظوری سے تبدیل کیئے جا سکتے ہیں۔
تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی مرمت کے	(۴) کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی کو تین ماہ کا تحریری نوٹیس دے کر معاہدہ ختم کر سکتی ہے۔

<p>لیئے امداد کی درخواست Application of endowment to repair of a protected heritage</p>	<p>(۵) اس دفعہ کے تحت معاہدہ تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کے کسی دعویدار شخص پر نافذ ہوگا، اس پارٹی کے تحت جس کے ذریعے وہ معاہدہ کیا گیا ہو۔ (۶) حکومت کی طرف سے تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کو محفوظ بنانے یا اس کے حفاظت پے آئے خرچہ کے سلسلے میں حاصل کردہ حق اس دفعہ کے تحت معاہدہ ختم ہونے پر متاثر نہیں ہوگا۔</p>
<p>تلفظ میں لیئے گئے ورثہ کی لازمی خرید Compulsory Purchase of Protected heritage</p>	<p>۹۔ اگر مالک نابالغی یا معذوری کے سبب اپنا کام خود کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس کی طرف سے قانونی طور پر مجاز بنایا گیا شخص دفعہ ۸ ک تحت مالکانہ اختیارات استعمال کرے گا۔</p>
<p>تلفظ میں لیئے گئے ورثہ کی لازمی خرید Compulsory Purchase of Protected heritage</p>	<p>۱۰۔ (۱) اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کو تباہ کرنا، ہٹانا، تبدیل کرنا، بگاڑنا یا گرانا چاہتا ہے یا اس پر تعمیر کرنا چاہتا ہے یا محل وقوع کے قریب معاہدے کے شرائط سے تکرار میں دفعہ ۸ کے تحت اس کے تحفظ کے خلاف کچھ کرتا ہے، کمیٹی ایسی خلاف ورزی کے خلاف منع نامہ کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔</p>
<p>تلفظ میں لیئے گئے ورثہ کی مرمت Maintenance of protected heritage</p>	<p>(۲) اگر مالک یا دوسرا کوئی جو دفعہ ۸ کے تحت تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی حفاظت اور مرمت کے لیئے معاہدے کے تحت پابند ہے، وہ کمیٹی کے خیال میں ایسی مرمت یا حفاظت کے لیئے ضروری اقدامات نہیں اٹھاتا، یا ایسے موزوں وقت کے دوران جو کمیٹی کی طرف سے طے کیا گیا ہو، اس کے دوران ایسے اقدام نہیں اٹھاتا، تو کمیٹی کسی شخص کو ایسے اقدامات اٹھانے کے لیئے باختیار بنا سکتی ہے، اور ایسے اقدامات اٹھانے پر خرچہ یا خرچہ کا ایسا حصہ جو معاہدے کے تحت مالک کو بھرنا تھا، وہ مالک سے لینڈ روینیو کی بقایاجات کی مد میں وصول کیا جائے گا۔</p>
<p>شراکتداری عطیات Contributions and donations تلفظ میں لیئے گئے ورثہ کا مقصد اور استعمال</p>	<p>(۳) اس دفعہ کے تحت کردہ حکم سے متاثر شخص حکومت کو اپیل کر سکتا ہے، جو اس کو رد یا اس پر نظرثانی کر سکتی ہے، اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔</p>

Purpose and use of protected heritage	<p>۱۱۔ (۱) اگر کوئی مالک یا دوسرا کوئی بااختیار بنایا گیا شخص دفعہ ۸ کے تحت تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی حفاظت کے لیئے معاہدے میں داخل ہوتا ہے، وہ کمیٹی کی طرف سے اس کو دیئے گئے کام سے انکار کرتا ہے یا ایسے معاہدے پر عمل میں ناکام ہوتا ہے اور اگر ایسے ورثہ کی مرمت کے مقصد کے لیئے کوئی انڈومنٹ قائم کیا گیا ہے، یا ایسے مقاصد کے لیئے تو، کمیٹی ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں ایسے انڈومنٹ یا اس کے حصہ کے مناسب استعمال کے لیئے کیس داخل کر سکتی ہے۔</p>
تحفظ میں لیئے گئے ورثہ میں حکومت کا حق ضایع ہونا	<p>(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت درخواست کی شنوائی پر ڈسٹرکٹ جج سمن جاری کر سکتا ہے اور مالک اور کسی شخص جس کی گواہی اس کے لیئے ضروری ہو ان سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، اور انڈومنٹ کے مناسب استعمال یا کسی پارٹے کے لیئے حکم جاری کر سکتا ہے، اور ایسے کسی حکم پر ایسے عمل کیا جائے گا جیسے وہ ایک سول کورٹ کی ڈکری تھا۔</p>
Relinquishment of Government rights in a protected heritage	<p>۱۲۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ تحفظ میں لیا گیا ورثہ کو تباہ ہونے، نقصان پہنچنے یا زبون ہونے کا خطرہ ہے تو حکومت اس کو لینڈ اکویریشن ایکٹ، ۱۸۹۳ کی گنجائشوں کے تحت حاصل کر سکتی ہے، جیسے تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی حفاظت ایکٹ کے تحت "عوامی مقصد" کے لیئے ہو۔</p>
مخصوص تحفظ میں لیئے گئے ورثہ پر رسائی کا حق	<p>(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت ملے ہوئے ضروری خرید کے اختیارات مندرجہ ذیل صورت میں استعمال نہیں کیئے جائیں گے:</p>
Right of access to certain protected heritage	<p>(a) تحفظ میں لیا گیا ورثہ جو یا جس کا حصہ باقاعدگی سے مذہبی پیروکاری کے لیئے استعمال ہوتا رہا ہے، یا</p> <p>(b) کوئی تحفظ میں لیا گیا ورثہ جو دفعہ ۸ کے تحت کیئے گئے معاہدے میں آتا ہو۔</p>
جرمانہ	<p>۱۳۔ کمیٹی ہر تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی دیکھ بھال اور تحفظ کرے گی جس کے کوئی بھی حق جو</p>
Penalty for overriding effect of Rules 21. اس ایکٹ کے	

تحت کام کرنے والے
شخص کا تحفظ

Protection to
the Person;
acting under
this Act

دفعہ ۷ میں دیا گیا ہے، حکومت نے حاصل کیئے ہیں
یا جو حکومت نے دفعہ ۱۲ کے تحت حاصل کیا ہے۔

۱۳۔ کمیٹی تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی مرمت کی
مد میں رضاکارانہ طور پر رقم اور امداد حاصل کر
سکتی ہے اور اس کی طرف سے اس طرح حاصل
کردہ کوئی فنڈس کے انتظام اور استعمال کے لیئے
احکامات جاری کر سکتی ہے۔

بشرطیکہ اس دفعہ کے تحت حاصل کردہ کوئی بھی
رقم دوسرے کسی مقصد کے لیئے استعمال نہیں کے
جائے گی، علاوہ اس مقصد کے جس کے لیئے وہ دی
گئی ہے۔

۱۵۔ اس ایکٹ کے تحت تحفظ میں لیا گیا ورثہ اعلانیہ
مقاصد کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔

۱۶۔ حکومت کی منظوری سے، کمیٹی:

(a) جہاں اس ایکٹ کے تحت کسی تحفظ میں لیئے
گئے ورثہ کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے
حقوق حاصل کیئے گئے ہوں کسی فروخت، لیز، تحفہ
یا وصیت کے سلسلے میں، وہ اس طرح حاصل کردی
ایسے حقوق ایسے شخص کے حق میں ختم کر
سکتی ہے، جو وقتی طور پر ایسے ورثہ کا مالک
ہے؛ یا

(b) تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کی اس ایکٹ کے تحت
قبول کردہ دیکھ بھال ختم کر سکتی ہے۔

۱۷۔ (۱) ایسے قواعد کے تحت جو حکومت کی
طرف سے بنائے جائیں، عوام کو اس ایکٹ کے تحت
حکومت کی طرف سے کسی تحفظ میں لیئے گئے
ورثہ تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کوئی قاعدہ بنانے کے
وقت حکومت یہ طے کر سکتی ہے کہ اس کی
خلاف ورزی سزا لائق ہوگی، جس کا جرمانہ پچیس

ہزار سے بڑھ سکتا ہے۔

۱۸۔ جہاں مالک کے ساتھ کوئی شخص اس ایکٹ کے تحت حکومت کی طرف سے دیکھ بھال اور تحفظ میں لیئے گئے ورثہ کو تباہ کرتا ہے، ہٹاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تبدیل کرتا ہے یا اس کی شکل بگاڑتا ہے یا اس سلسلے میں دفعہ ۸ کے تحت جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ جرمانہ کی سزا کا مستحق ہوگا، جو ایک لاکھ روپے تک بڑھ سکتا ہے، یا قید کی سزا جو تین سال تک بڑھ سکتی ہے، یا دونوں ساتھ۔

۱۹۔ اس ایکٹ کی گنجائشیں وقتی طور پر نافذ کسی اور قانون پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔

۲۰۔ حکومت اس ایکٹ کے مقاصد کے لیئے قواعد بنا سکتی ہے۔

۲۱۔ کوئی کیس یا مقدمہ یا دوسری کوئی قانونی کارروائی اس ایکٹ یا اس کے تحت بنائے گئے قواعد کے تحت اچھی نیت سے کیئے گئے کسی کام یا کچھ کرنے کے ارادے پر حکومت، کمیٹی، چیئرمین، میمبر یا کمیٹی کے کسی عملدار کے خلاف نہیں ہوگی۔

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔